

8037-خاوند اپنی بیوی کی توبہ کرتا ہے

سوال

میں تقریباً پچھیں برس سے شادی شدہ ہوں اور میرے کئی بیٹے بیٹیاں بھی ہیں مجھے اپنے خاوند کی طرف سے کئی ایک مشکلات کا سامنا رہتا ہے، وہ میری اولاد، ہر قریب اور دور کے رشتہ دار کے سامنے میری ہمیشہ اور بغیر کسی سبب کے بہت ہی زیادہ توبہ کرتا ہے اور بالکل میری قدر نہیں کرتا مجھے صرف اس وقت سکون ملتا ہے جب وہ گھر سے باہر جاتا ہے۔

آپ کو علم ہونا چاہے کہ میرا خاوند نمازی ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی اس کے دل میں ہے، میری گزارش ہے کہ کوئی اچھا ساطریۃ بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزاۓ خیر عطا فرمائے۔

پسندیدہ جواب

الحمد لله

آپ پر ضروری ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اپنے خاوند کو احسن اور بہتر انداز سے نصیحت کرتی رہیں، اور اسے اللہ تعالیٰ اور آخرت کی یادِ دلائقِ رہیں ہو سکتا ہے وہ اسے قبول کرے اور حق کی طرف رجوع کرتا ہو اپنے اخلاق کو ترک کر دے۔

اگر اس کے باوجود بھی اپنے فعلِ پر قائم رہتا ہے تو پھر اس کا وصال بھی اسی پر ہے، اور آپ کو اس کی اذیت پر صبر و تحمل کرنے کا اجر و ثواب ملے گا، نیز آپ کے لیے یہ بھی مشروع ہے کہ نماز اور دوسرا سے اوقات میں اس کی حدايت کی لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راہ پر لے آئے اور اسے اخلاقِ حسن و فاضلہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو اس اور دوسروں کے شر سے محفوظ رکھے۔

آپ پر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنا ماحسبہ کریں اور اپنے دین میں استقامت اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور خاوندیا کسی اور کے حق میں جو کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں ان سے توبہ کریں، ہو سکتا ہے آپ پر یہ سب کچھ اس مصیت و گناہ کی وجہ سے مسلط کر دیا گیا ہو جو آپ سے سرزد ہوئی ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

{تمہیں جو کچھ مصیبت ہجتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلتے ہے، اور وہ توبہت سی باقول سے درگزر فرمادیتا ہے}۔ الشوری (30)۔

اس میں بھی کوئی مانع نہیں کہ آپ اپنے سر اور ساس یا پھر خاوند کے بڑے بھائیوں اور جنہیں وہ قرکی نظر سے دیکھتا ہے سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ آپ کے خاوند کو نصیحت کریں اور اسے سمجھائیں کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آئے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مندرجہ ذیل فرمان پر عمل کر سکے:

فرمان باری تعالیٰ ہے :

{اوْرَانَ حُورَتُوْنَ سَمَّيْتُ اَنْجِيْ اَوْرَاحْسَنَ اَنْدَازَ سَمَّيْتُ بَوْدَوْ بَاشَ اَخْتِيَارَ كَرْوَ}۔ النساء (19)۔

اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح فرمایا ہے :

{اوْرَانَ حُورَتُوْنَ کَمَّيْ وَلِيْسَهِ هِيْ عَنِ هِيْ جِيْسَيْ اَنْ مَرَدُوْنَ کَمَّيْ اِلْجَهَانَیْ کَسَاتِهِ، هَلَ مَرَدُوْنَ کَوْ حُورَتُوْنَ پَرْ فَضْلَيْتَ هِيْ}۔ البقرة (228)۔

اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے حالات کی اصلاح فرمائے، اور آپ کے خاوند کو حدايت نصیب فرما کر صحیح راستہ اور خیر و بخلانی کی طرف لائے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی سخاوت و کرم والا ہے۔